

4th July, 2022

Mr. Bilal Ahmad Durrani, Advocate learned counsel for the appellant present and submitted Wakalatnama on behalf of the appellant.

The appellant had initially filed the writ petition which was sent to this Tribunal by the Hon'ble Peshawar High Court. In the writ petition the Hon'ble Peshawar High Court was pleased to seek comments of respondent No.3 which are found placed on the file. Let other respondents be directed to submit their written reply/comments within 15 days. To come up for written reply/preliminary hearing on 05.09.2022 before S.B.



(Kalim Arshad Khan)
Chairman

05.09.2022

Appellant present in person and made a request for adjournment on the ground that his counsel is not available today. Request accepted. To come up for preliminary hearing/written reply on 25.10.2022 before S.B.





(Fareeha Paul)
Member (E)

Form-A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____


Case No. 889/2022





S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	07/06/2022	<p>The present appellant initially went in Writ Petition before the Hon'ble Peshawar High Court Bannu Bench and the Hon'ble High Court vide its order dated 26.05.2022 treated the Writ Petition into an appeal and sent the same to this Tribunal for decision in accordance with law. The same may be entered in the Institution Register and put up to the worthy Chairman for further order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-	13 th June, 2022	<p>Appellant present in person.</p> <p>Counsel are on strike. To come up for preliminary hearing on 04.07.2022 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> (Kalim Arshad Khan) Chairman</p>


Form-A
FORM OF ORDER SHEET



Court of _____

Case No. 889/2022



S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	07/06/2022	<p>The present appellant initially went in Writ Petition before the Hon'ble Peshawar High Court Bannu Bench and the Hon'ble High Court vide its order dated 26.05.2022 treated the Writ Petition into an appeal and sent the same to this Tribunal for decision in accordance with law. The same may be entered in the Institution Register and put up to the worthy Chairman for further order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2	13/06/22	<p>This case is entrusted to S. Bench at Peshawar for preliminary hearing to be put up there on _____ Notices shall be issued to appellants and his counsel for the date fixed.</p> <p>The Appellant present in person Counsel are at Stulm - for preliminary hearing or 4/7/22</p>

قیمت 50 روپے	25095			
ایڈوکیٹ: 		پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ		
بار کونسل/ ایسوسی ایشن نمبر:				
رابطہ نمبر: 0333-9274817				

بعدالت جناب:  صدر سروس کٹر جنرل کی مدد سے

 انعام ڈسٹرکٹ جج ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ جج ایسوسی ایشن	دعویٰ: 
	علت نمبر: 889/2022
	مورخہ: 13-06-2022
	جرم:
	تھانہ:

باعث تحریر آگے


مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کارروائی متعلقہ
 آن مقام  کیلئے  درج ذیل مقرر
 کر کے قرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو
 راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق
 زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز
 دائر کر کے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی
 کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کواپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب
 مقرر شدہ کو کوئی جملہ مذکورہ بااختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پروا اختیار منظور و قبول ہوگا
 دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانبہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے
 باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے


المقام: 
 المرقوم: 
 13-06-2022
 PESHAWAR BAR ASSOCIATION
 KHYBER PAKHTOONKHWA



نوٹ: اس وکالت نامہ کی نوک کاپی ناقابل قبول ہوگی۔

14202-5872753-1


 انعام



THE
PESHAWAR HIGH COURT,
BANNU BENCH

All the Communications should be
addressed to the Additional
Registrar of this Bench

Office: +92-928-9270393
Fax: +92-928-9270394
Email: phcbannubench@yahoo.com
Email: phcbannubench@gmail.com

No: 65 WP-Judl

Dated Bannu the 01_06_2022

From The Additional Registrar,
Peshawar High Court,
Bannu Bench.

To Worthy Service Tribunal,
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

Subject: COURT ORDERS IN WP NO. 1124-B OF 2019
Titled: Inam Ur Rehman ..vs... Govt Of KP

Memo:

As per directions of Hon'ble Division Bench of this court vide order dated 26.05.2022, please find enclosed herewith the above titled writ petition in original for compliance positively.


Amh2
ADDITIONAL REGISTRAR
1.6.22

Enclosure:

1: Writ Petition No 1124-b/2019, Inam ur Rehman vs Govt Of KP.

PESHAWAR HIGH COURT,
BANNU BENCH

FORM OF ORDER SHEET



Date of Order or proceedings (1)	Order or other proceedings with signature of Judge(s) (2)
26.05.2022	<p><u>W.P No.1124 -B of 2019</u> <u>Present:</u></p> <p>Ahmad Farooq Khattak advocate for petitioner. Mr. Saif-ur-Rehman Addl: A.G for the official respondents.</p> <p align="center">***</p> <p>Perusal of the record reveals that points so agitated pertain to the terms and conditions of service. In the instant case, the petitioner also availed departmental remedy. We deem it appropriate to send this case to the hon'ble Service Tribunal for its decision in accordance with law. Petitioner shall appear before the tribunal on <u>13.06.2022</u>. Office is directed to keep memo of this petition and sent the case file to the worthy Tribunal immediately.</p> <p align="right"><u>JUDGE</u></p> <p align="right"><u>JUDGE</u></p> <p align="center">CERTIFIED TO BE TRUE COPY</p> <p align="right">Peshawar High Court Bannu Bench Authorised Officer The Registrar, Bannu Bench</p>

ATTESTED
Peshawar High Court
Bannu Bench

27 MAY 2022
[Signature]

[Signature]

01/6/2022

﴿ عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ بنوں بینچ ﴾

عنوان: انعام الرحمن بنام حکومت

مقدمہ نمبر WP 1124-B/2019

پروانہ نوٹس بنام: احمد فاروق نٹک ایڈووکیٹ ضلع کرک

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 26/05/2022 بمقام پشاور ہائی کورٹ بنوں بینچ روبروئے عدالت مقرر کی گئی ہے۔

لہذا وکیل سائل کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے۔ کہ تاریخ مذکورہ پر عدالت ہذا میں بوقت 8:30 بجے برائے پیروی جوابدہی مقدمہ اصالتاً مختار تانا حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم موجودگی کاروائی حسب ضابطہ عمل میں لائی جائے گی۔

کو دستخط اور مہر عدالت کے ساتھ جاری کیا گیا۔

آج مورخہ 10/01/2022

برائے ایڈیشنل رجسٹرار

﴿ عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ بنوں بینچ ﴾

عنوان: انعام الرحمن بنام حکومت

مقدمہ نمبر WP 1124-B/2019

پروانہ نوٹس بنام: انعام الرحمن ولد شمین گل بیٹھا خیل تحصیل ضلع کرک

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 26/05/2022 بمقام پشاور ہائی کورٹ بنوں بینچ روبروئے عدالت مقرر کی گئی ہے۔

لہذا سائل کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے۔ کہ تاریخ مذکورہ پر عدالت ہذا میں بوقت 8:30 بجے برائے پیروی جوابدہی مقدمہ اصالتاً مختار تانا حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم موجودگی کاروائی حسب ضابطہ عمل میں لائی جائے گی۔

کو دستخط اور مہر عدالت کے ساتھ جاری کیا گیا۔

آج مورخہ 10/01/2022

برائے ایڈیشنل رجسٹرار

06.12.2021 WP 1124-B/2019 (N) with IR adjourned by the court from
20.11.2019 and is fixed before HDB on 26.5.2022.
Notice be issued to petitioner, his counsel and AAG.

A. L. R.
ADDITIONAL REGISTRAR

OFFICE OF THE ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL,
PESHAWAR HIGH COURT, BANNU BENCH.

Phone No. 0928-9270154, Fax No. 0928-9270387

S.No _____

Dated: 28/10/2020

ACKNOWLEDGEMENT.

It is certified that the file copy of Case/Comments in Case No. _____/2020, titled

"Inam ul Rehman vs Govt of KP" etc

has been received by the concerned clerk of this office.

Shamif 28/10/2020

Receiving Clerk
AAG Office P.H.C
Bannu Bench


(Receiving Clerk)

Additional Advocate General Office,
PHC Bannu Bench.

SCANNED

ACKNOWLEDGEMENT

I, Haseem Rashid ----- Clerk of Advocate/ Advocate for
Petitioner/Petitioner in Writ Petition No# 1124 P/2019
titled Talwar vs. Rehman vs. Nat of Ceph etc
received one copy of comments by hand from respondent No # 3



CNIC# _____

④

IN THE HON'ABLE PESHAWAR HIGH COURT, BANNU
BENCH, BANNU.

Writ Petition No. 1124-B of 2019

Inam ur Rehman (Petitioner)

VERSUS

Provincial Govt: of KP & others .(Respondents).

INDEX

S. No	Description of documents	Annexure	Page
1	Written comments		1-2
2	Affidavit		3
3	Authority letter	A	4

Dated:- 26 /10/2020

Respondent No. 3
District Education Officer
(M) Karak
(Male), Karak.

24/10/2020

Amir 2

**BEFORE THE HONOURABLE PESHAWAR HIGH COURT,
BANNU BENCH.**

Writ Petition No. 1124-B of 2019

Inam ur Rehman (Petitioner)

VERSUS

Provincial Govt: of KP & others .(Respondents).

Respectfully Sheweth

Written comments on behalf of Respondent No. 3


Preliminary Objections.

1. That petitioner has got no cause of action /locus standi to file the instant writ petition.
2. That the petitioner is not entitled to the relief as sought
3. That the petitioner is estopped by his own conduct to file the instant writ petition
4. That the instant writ petition is not maintainable & entertainable in its present form.
5. The petitioner is not come to this honourable court with clean hands.
6. That the instant petition is liable to be dismissed due to mis-joinder and non-joinder of the necessary parties.
7. That the petitioner is not competent to file instant writ petition.
8. That the petition is against the law and facts.

Factual Objections

Vetted
26/10/2020
Additional
Advocate General
PHC Bannu Bench.

1. Para No.1 is correct, however, the appointment order of petitioner has been issued by the then Assistant District Education Officer (M), Karak Mr. Hamyune Khattak and the petitioner resumed his charge at GHSS Dabli Lawaghar and his service book was prepared by the Headmaster GHSS Dabli Lawaghar.
2. Para No. 2 is correct.
3. Para No. 3 is incorrect. it is further stated that the petitioner has not been transferred from GHSS Dabli Lawghar to GHS Khurram, however, neither respondent No. 3 has issued his termination order nor stopped his pay but the respondent No.4 (Head Master GHS Khurram) can submit reply to explain the real position.
4. Para No. 4 is not related with respondent No. 3
5. Para No. 5 is incorrect and wrong. The neither the petitioner has submitted an application to respondent No. 3 nor the respondent No. 3 has stopped his salary and also not



maintained his service. It is job of Headmaster GHS Khurram who can stop his salary, maintain his service hence the Headmaster GHSS Khurram can explain further position of petitioner.

5. Para - 5 (sub para) is also incorrect and wrong.
6. The reply of Para No. 6 is that the respondent No. 6 has not served any show cause notice about the irregularities as the respondent No. 4 (Headmaster GHS Khurram) is the immediate officer of petitioner and he can explain better position about the petitioner services.
7. Para No. 7 is incorrect and wrong. Respondent No. 4 (Headmaster GHS Khurram) is responsible the service of the petitioner. The respondent No. 3 has not been received any letter, complaint, application either from petitioner nor Headmaster GHS Khurram.
8. Reply of 8 is that when the respondent No. 3 has not terminated the petitioner from his service nor his termination order has been received from Headmaster GHS Khurram then how can respondent No. 3 can reinstate him.

Objections on Grounds.

- a. Ground-A to Ground F are related with the respondent No. 4 and he can explain the real situation and position about the petitioner services. It is worth mentioning here that the Headmaster GHSS Dabli Lawghar has not been impleaded as party and he can also explain the services position of petitioner.
- b.

Prayer

So it is, therefore, most humbly and respectfully prayed that keeping in view the above mentioned written comments this Hon'able court may very kindly be pleased to dismiss the petition against the respondent No. 3

Dated:- -----/10/2020

Respondent No. 3
 District Education Officer
 (Male), Karak. 24/10/2020

BEFORE THE HONOURABLE PESHAWAR HIGH COURT,
PESHAWAR

Writ Petition No. 1124-B of 2019

Inam ur Rehman (Petitioner)

VERSUS

Provincial Govt: of KP & others .(Respondents).

AFFIDAVIT

I, Dil Nawaz Sub Division Officer (Male) B.D. Shah (Karak) BPS-17 do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the contents of accompanying joint parawise comments are true and correct to the best of my knowledge and belief, nothing is lie and nothing has been concealed from this Hon'able court.

Dated -26/10/2020

Deponent

Dil Nawaz
26/10/2020

Dil Nawaz (BPS-17) SDEO (M)
SDEO(M) B.D. Shah (Karak)

Identification.

Identified by

for
[Signature]
Additional
Advocate General
PHC Bannu Bench.

14915


Certified that the above was verified on solemn
affirmation before me in office this 26

day of oct - 2020 by Dil Nawaz SDEO

S/o Dashat Mir R/O Karak

who was identified by AACs

no is personally know to me



Anabz
Oath Commissioner
Peshawar High Court
Bannu Bench

4


OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE),
KARAK

No 3558

Dated 24-10-20

AUTHORITY LETTER

Mr. Dil Nawaz Sub Divisional District Education Officer (Male), B.D. Shah Karak do hereby authorized to file written comments on behalf of District Education Officer (Male), Karak in writ petition No. 1124-B of 2019 titled "Inam ur Rehman V.S Provincial Govt: of KP & others in Peshawar High Court Bannu Bench.


District Education Off.
(M) Karak
District Education Officer (Male)
Karak. 24/10/2020

Gmail

Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch <phcbwritbranch@gmail.com>

**DIRECTIONS FOR SUBMISSION OF COMMENTS IN WP 1124-B/2019 INAM UR
REHMAN VS GOVT**

2 messages

Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch <phcbwritbranch@gmail.com>
To: emiskarakmale@gmail.com, aagbannu@gmail.com

10 December 2019 at 10:59

URGENT COURT MATTER

**Grounds of petition along order of this Honourable Court is transmitted for information
and necessary compliance at the earliest.**

 **WP 1124 of 2019 Grounds + Order.pdf**
346K

Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch <phcbwritbranch@gmail.com>
To: emiskarakmale@gmail.com, AAG Bannu <aagbannu@gmail.com>


3 November 2020 at 11:37

----- Forwarded message -----

From: **Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch** <phcbwritbranch@gmail.com>
Date: Tue, 10 Dec 2019 at 10:59
Subject: **DIRECTIONS FOR SUBMISSION OF COMMENTS IN WP 1124-B/2019 INAM UR REHMAN VS GOVT.**
To: <emiskarakmale@gmail.com>, <aagbannu@gmail.com>

REMINDER

[Quoted text hidden]

 **WP 1124 of 2019 Grounds + Order.pdf**
346K



Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch <phcbwritbranch@gmail.com>

**REMINDER FOR SUBMISSION OF COMMENTS IN WP 1124-B/2019 INAM UR
REHMAN VS GOVT OF KP**

2 messages

Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch <phcbwritbranch@gmail.com>
To: emiskarakmale@gmail.com, aagbannu@gmail.com

23 January 2020 at 14:53

URGENT COURT MATTER

**Comments were requisitioned from you respondent by hon'ble court but the same have
not been submitted yet. Therefore it is reminded that comments be submitted within
fortnight.**

Peshawar High Court Bannu Bench Writ Branch <phcbwritbranch@gmail.com>
To: emiskarakmale@gmail.com, aagbannu@gmail.com

18 July 2020 at 11:29

[Quoted text hidden]

IN THE PESHAWAR HIGH COURT BANNU BENCH

WRIT PETITION NO. 1124 - B 18656
with SR

This Writ petition has been presented by _____

(Handwritten signature)

On behalf of the petitioner (s).

This petition is in proper form copies of all the relevant documents have been attached.

_____ spare copies of Writ Petition have also been attached.

Writ Petition entered in the relevant Register and placed before Hon'able Court S.B./D.B.

for further order on 20/11/19

Dated 14.11.19

(Signature)
READER

Dated 14.11.19

COUNTERSIGNED

(Signature)
S. H. K. / S. H. K.

(Signature)
ADDITIONAL REGISTRAR

BEFORE PESHAWAR HIGH COURT BANNU BENCH

Check List

1	Case Title	_____ Vs _____ and others		
2	Case is duly signed		Yes	No
3	The law under which the case is preferred has been mentioned		Yes	No
4	Approved file cover is used		Yes	No
5	Affidavit is duly attested and appended		Yes	No
6	Case and annexure are properly paged and numbered according to index		Yes	No
7	Copies of annexure are legible and attested. If not, then better copies duly attested have been annexed		Yes	No
8	Certified copies of all the requisite documents have been filed		Yes	No
9	Certificate specifying that no case on similar grounds was earlier submitted in this court filed		Yes	No
10	Case is within time		Yes	No
11	The value for the purpose of court fee and jurisdiction has been mentioned in the relevant column		Yes	No
12	Court fee in shape of stamp paper is affixed. [For writ Rs. 500, for other as required]		Yes	No
13	Power-of attorney is in proper form		Yes	No
14	Memo of addresses filed		Yes	No
15	List of books mentioned in the petition		Yes	No
16	The requisite number of spare copies attached. [Writ Petition-3 Nos, Civil Appeal (SB-1, DB-2), Civil Revision (SB-1, DB-2)]		Yes	No
17	Case (Revision/Appeal/Petition etc.) is filed on a prescribed form.		Yes	No
18	Power of Attorney is attested by jail authority (for jail Prisoners only).		Yes	No

It is certified that formalities/Documentations as required in column 2 to 18 above, have been fulfilled.

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

FOR OFFICE USE ONLY

Case No. : _____

Case Received on: _____

Complete in all respect: Yes/No (If No, the grounds: _____)

Date in Court: _____

Signature: _____
(Reader)

Date: _____

Countersigned: _____
(Deputy Registrar)



OFFICE OF THE ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL,
PESHAWAR HIGH COURT, BANNU BENCH.

Phone No. 0928-9270154, Fax No. 0928-9270387

Dated: 13/11/2019


S.No _____

ACKNOWLEDGEMENT.

It is certified that the file copy of Case/Comments in Case No. WP. /2019, titled

"Imam ur Rahman vs Govt of KPK"

has been received by the concerned clerk of this office.

 13-11-19

(Receiving Clerk)

Additional Advocate General Office,
PHC Bannu Bench.

URGENT FORM

BEFORE THE HONOURABLE PESHAWAR HGH COURT
BANNU BENCH.

Writ Petition No. 1124 - R of 2019

Inam ur Rehman (Petitioner)

VERSUS

Provincial Govt: of KP & Others (Respondents)


Kindly treat the accompanying writ petition as an urgent matter and the ground of urgency is that the official respondents are going to take adverse action against the petitioner, therefore, it is needed to be fixed the above titled writ petition for early hearing.

Dated:- 05/11/2019

Petitioner *Inam ur Rehman*

Through *Ahmad Farooq Khattak*
Advocate, Karak.

*HVC to fix it before
HDB 2
16/11/19*



IN THE HONOURABLE PESHAWAR HGH COURT
BANNU BENCH, BANNU.

Writ Petition No. 1124 - R of 2019

Appeal no. 889/2022
Inam ur Rehman (Petitioner)

VERSUS

Provincial Govt: of KP & Others (Respondents)

INDEX

S. No	Description of Documents	Annex	Page
1	Opening Sheet		1
2	Grounds of Writ Petition		2-5
3	Affidavit in support of Writ Petition.		6
4	Photocopy of appointment order No. 3341-44/ Dated Karak the 03/10/2014	A	7
5	<i>Photocopy of pay slip</i>	B	8-18
	<i>Photocopy of service book</i>	C	19-21
	<i>Photocopy of Source-II Form</i>	D	22
6	<i>Photocopies of applications</i>	E	23-28
7	Notice & Receipt		29 29-30
8	Court Fee Rs. 500/-		30 31
9	Vakalat Nama		31 32



Dated:- 04/10/2019

Petitioner

Inam ur Rehman

Through

Ahmad Farooq Khattak
Advocate, Karak.



**IN THE HON'ABLE PESHAWAR HIGH
COURT BANNU BENCH, BANNU.
OPENING SHEET FOR WRIT BRANCH**

Case No -----
Date of Filing -----
District -----

Case Type : Writ Petition Nature of Original Proceedings

Category Code	5	2	5	0	1			(Categories & Sub Categories are given at the back of the opening sheet)
---------------	---	---	---	---	---	--	--	--

Review / Contempt of court in respect of

Writ of:	Haabus Corpus	Prohibition	Mandamus	Quo Warrant	Cemeteri
----------	---------------	-------------	----------	-------------	----------

Forum	Date	(Interlocutory / Final Order	Case pertains to SB DB
Elementary & Secondary Education Department, Karak.	05-04-19		

Petitioner Name	Inam ur Rehamn
Mobile No	0333-9661406
Address	Resident of village & Post Office Mitha Khel Tehsil & District, Karak
CNIC No.	
Email Address	

Counsel of Petitioner	Ahmad Farooq Khattak
Mobile No	03327778899
Address	District Courts Karak
CNIC No.	14202-1347465-5
E-Mail Address	

Respondents	Office of the District Education Officer (Male), KDA, Karak.
Address	As above ,

Original Order/Action/Inaction banning of services of petitioner as Lab Attendant and stoppage of his salary.

Prayer :- So it is, therefore, most humbly and respectfully prayed that on acceptance of the instant writ petition this honourable court may very graciously be pleased to declare ban on the services of petitioner imposed by the official respondents is illegal, unlawful, against law & facts, without lawful authority, void ab initio and nullity in the eye of law and this honourable court be pleased to issue writ directing the respondents to restore the services of petitioner as Lab Attendant as well as to release his salary with all back benefits w.e.f February, 2016 till date and onward.

Filed Today
14 Nov 2019
Further prayed that this honourable court may very kindly be pleased to direct the official respondents to transfer respondent No. 6 from GHS Khurram and the petitioner be adjusted on his own post as Lab Attendant at GHS Khurram.

Additional Registrar
Any other relief may also be granted in favour of petitioner if this honourable court deems appropriate in circumstances of the case.

Law/Rules / Governing the original proceedings /action /Inaction :- **Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973.**

Signature

BEFORE THE HONOURABLE PESHAWAR HIGH COURT
BANNU BENCH BANNU.

Writ Petition No. 1124-B of 2019

Appeal no. 889/2022

Inam ur Rehman son of Samin Gul Mitha Khel Tehsil & District, Karak.----- **(Petitioner).**

VERSUS

1. Provincial Govt: of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Elementary & Secondary Education Department, Civil Secretariat Peshawar.
2. Director Education Elementary & Secondary Education Department Khyber Pakhtunkhawa, Peshawar.
3. District Education Officer (Male), Karak.
4. Headmaster Govt: High School Khurram Karak.
5. District Account Office, Karak.
6. Muhammad Shafiq son of Gul Raise R/O Dagar Nari Tehsil B.D. Shah District Karak presently Lab Attendant at Govt: High School Khurram Karak----**(Respondents).**


Addresses of the parties mentioned above are sufficient for proper service.

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 199 OF THE CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN, 1973.

Respectfully Sheweth

This writ petition arises out of the following facts.


1. That the petitioner was appointed as Lab Attendant vide appointment order No. 3341-44/ Dated Karak the 03/10/2014 and was posted at Govt: Higher Secondary School Dabli Lawaghar. -----**(Photocopy of appointment order is attached as *Marked -A*).**
2. That after resuming charge at Govt: Higher Secondary School Dabli Lawaghar, the petitioner started his duty at GHSS Dabli Lawaghar and the petitioner was paid monthly salary from code No. KK7055 Head Master GHS Dabli Lawaghar w.e.f 03/10/2014 to 1st March, 2016 as well as Service Book was also prepared for



Aziz

petitioner.-----(*Photocopy of pay slip and service book are attached as **Marked-B & C.***)

3. That then the petitioner was transferred to Govt: High School Khurram and the petitioner made his arrival report at GHS Khurram and started his official duty but the pay of petitioner for the month of February, 2016 was not paid to the petitioner. The petitioner was stopped by the Headmaster GHS Khurram from duty and on political ground the respondent No. 6 was transferred against the post of Lab Attendant but till date neither the petitioner was terminated from service nor suspended and even than no notice has been served to the petitioner.
4. That then the petitioner went to the District Account Office, Karak to know the reason of his stoppage of salary where the petitioner was provided Source-II Form through the pay of petitioner was stopped by the Headmaster GHS Khurram. ----- (*Photocopy of Source-II Form is attached as **Marked-D***)
5. That then the petitioner submitted applications before the District Education Officer (Male), Karak with the request to function the services of the petitioner and to release his salary and the petitioner kept in hanging position. -----
-----(*Photocopies of applications are annexed as **Marked-E***)
5. That the petitioner requested the DEO (M), Karak several times both written & verbally to solve the grievances of petitioner but till date no response.
6. That neither the Headmaster GHS Khurram nor the District Education Officer (Male), Karak have served any show cause notice to petitioner against any charges and irregularities for which the services of the petitioner has been banned and the Headmaster GHS Khurram stopped the pay of petitioner through Source-II Form.
7. That without any cause and genuine reason the services of the petitioner has been banned by the competent respondents and the competent respondents have not considered the applications of the petitioner.
8. That the respondents No. 3 & 4 (DEO, Karak & Headmaster GHS Khurram) have neither re-instated the petitioner against the post of Lab Attendant nor released his salary hence the petitioner aggrieved by the illegal and unlawful act of respondents No. 3 & 4 as there is no other efficacious and adequate remedy is available to the petitioner hence the petitioner approaches before this honourable court by filing the instant writ petition on the following grounds.



Handwritten signature

Grounds.

- a. That the services of the petitioner as Lab Attendant at GHS Khurram has been banned and ~~the~~ stopped the petitioner to perform his duty without any reason and also stopped his pay which is illegal and unlawful.
- b. That the petitioner neither remained absent nor committed any other irregularity and in case of any irregularity on the part of petitioner then the competent respondents are legally bound to call explanation and to serve show cause notice to petitioner but the competent respondents without any allegations against the petitioner, the services of petitioner has been banned and stopped his salary which is against the law.
- c. That the competent respondents have not fulfilled the legal obligations before imposing ban on the services of petitioner and the petitioner has been kept in hanging position w.e.f February, 2016 till date. Neither the petitioner has been terminated from his service nor suspended but imposed ban on petitioner to perform his duty at GHS Khurram.
- d. That the competent respondents have not given proper attention towards the matter of petitioner which is itself irregularities on the part of competent respondents.
- e. That in case of any mis-conduct on the part of petitioner then the competent respondents were duty bound to call explanation and to give a chance of personal hearing to the petitioner to explain the situation but here no allegations are existed against the petitioner, therefore, to impose ban on the service of petitioner and to stop his pay is illegal and unlawful.
- f. That in case of irregularity or any mis-conduct the competent respondents can suspend the services of the petitioner but cannot stop his salary under the law until and unless proper inquiry may not be conducted nor inquiry report recommends any punishment under E & D Rules against the petitioner.
- g. That any other point will be pressed during course of argument with permission of this honourbale court.



A. J. Javed

Prayer in Writ Petition.

So it is, therefore, most humbly and respectfully prayed that on acceptance of the instant writ petition this honourable court may very graciously be pleased to declare ban on the services of petitioner imposed by the official respondents is illegal, unlawful, against law & facts, without lawful authority, void ab initio and nullity in the eye of law and this honourable court be pleased to issue writ directing the respondents to restore the services of petitioner as Lab Attendant as well as to release his salary with all back benefits w.e.f February, 2016 till date and onward.

Further prayed that this honourable court may very kindly be pleased to direct the official respondents to transfer respondent No. 6 from GHS Khurram and the petitioner be adjusted on his own post as Lab Attendant at GHS Khurram.

Any other relief may also be granted in favour of petitioner if this honourable court deems appropriate in circumstances of the case.

Interim Relief.


By way of interim relief, this honourable court may very kindly be pleased to restrain the competent respondents to take any adverse action against the petitioner and be allowed to perform his duty and to release his salary provisionally till final decision of the main writ petition.

Dated:- 05/11//2019

Petitioner

Inam ur Rehman

Through


Ahmad Farooq Khattak
Advocate, Karak.

Certificate

Certified that no such like writ petition has been filed on similar grounds earlier before this court or any other court.


Petitioner

Asmat Ullah



Law Books

1. The constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973.
2. Case law according to need.



IN THE HONOURABLE PESHAWAR HIGH COURT
BANNU BENCH, BANNU.

Writ Petition No. 1124-B of 2019

Inam ur Rehman (Petitioner)

VERSUS

Provincial Govt: of KP & Others (Respondents)

AFFIDAVIT

I, Inam ur Rehman son of Samin Gul Mitha Khel Tehsil & District, Karak do hereby solemnly affirm and declare on oath that all the contents of the accompanying writ petition are true and correct to the best of my knowledge and belief, nothing is lie and nothing has been concealed from this Hon'able court.

Dated:04/11//2019


Deponent ✓

Inam ur Rehman

Identification

Identified by Ahmad Farooq Khattak Advocate, Karak.

no 10870
Certified that the above was verified on solemnly
affirmation before me in office on the 12
day of Nov 2019 by Inamur Rahman
S/o Samir Gul Mitha Karak
who was identified by Ahmad Farooq Adv
who is personally know to me
Oath Commissioner
Peshawar High Court
Bannu Bench
12.11.2019



(Annexure - A) (7)



Office of the District Education Officer

KARAK

APPOINTMENT.

Consequent upon the recommendation of the District Recruitment/Selection committee, the following candidates are hereby appointed as Class IV on contract/ regular basis in BPS I @ RS (4800-150-9300) Per Month plus usual allowances as admissible under the rules to him on Merit basis, 25% retired Son Quota Deceased son Quota and 2% Disable Quota w.e.f the date of their taking over charge.

Disable: 2%

S.No	Name	Father's Name	Village	Post	Where posted
1	Imam ur Rahman	Samin Gul	Milta Khel	Lab attendant	GHSS Dabli Lawaghar

TERMS AND CONDITION.

1. No TA/DA etc is allowed.
2. Charge report should be submitted to all concerned.
3. Appointment is purely on Contract/ Regular basis and liable to termination without notice.
4. He should not be handed over charge if they exceeded 40 years OR below 18 years of age.
5. If he fail to take over charge within 15 days, the appointment order will be deemed as canceled.
6. Health and age certificate should be produced from the medical superintendent concerned.
7. He is entitled for the benefits of a civil servant except pension and gratuity.

DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)
KARAK

Encl. No. 3341-44 / Dated Karak the 31/10 2014.

Copy to:

1. District Account Officer Karak.
2. Principal GHSS Dabli Lawaghar.
3. PA to Director E & SE KPK Peshawar.
4. Candidate concerned.

DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)
KARAK

Better Copy of Page No. 7

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE),
KARAK.

Appointment

Consequent upon the recommendation of the District Recruitment / Selection Committee, the following Candidate are hereby appointed as Class-IV on contract / regular basis in BPS-1 @ Rs. 4800+150+9300) per month plus usual allowances as admissible under the rules to him on merit basis, 25% retired son quota , deceased son quota and 2% disable quota w.e.f the date of their taking over charge.

Disable 2% .

S. No	Name	Father's Name	Village	Post	Where posted
1	Inam ur Rehman	Samin Gul	Mitha Khel	Lab Attendant	GHSS Dabli Lawaghar

Terms & Condition.

1. No TA/DA et is allowed
2. Charge report should be submitted to all concerned.
3. Appointment is purely on contract / Regular basis and liable to termination without any notice.
4. He should not be handed over charge if they exceeded 40 years or below 18 years age.
5. If he fail to take over charge within 15 days , the appointment order will be deemed as cancelled.
6. Health and age certificate should be produced from the medical superintendent concerned.
7. He is entitled for the benefits of a civil servant except pension and gratuity.

District Education Officer (F)
Karak.

Endst: No. 3341-44/ Daed Kara k the 3/10/2014

Copy to

1. District Account Officer, Karak.
2. Principal GHSS Dabli Lawaghar
3. 3.PA to Director E & SE KP Peshawar.
4. Candidate concerned.

District Education Officer (F)
Karak.

(Annexure - B) 8

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:November 2014
KK7055 -Head Master GHS Dabli Lawa
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:
Name: ANAM REHMAN
LAB ATTENDENT
CNIC No.1420258727531
GPF Interest Applied
01 Active Permanent

NTN:
GPF #:
Old #:

KK7055 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	4,800.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1210-Convey Allowance 2005	1,785.00
1300-Medical Allowance	1,200.00
1971-Adhoc Allowance 2011@ 15%	445.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2118-Adhoc Relief Allow (2012)	960.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	720.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	480.00
Gross Pay and Allowances	22,709.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	212.00	Subrc:	212.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions 443.00

22,266.00

D.O.B 10.04.1979
00 Years 10 Months 029 Days

LFP Quota: 4
HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.
7900141601

[Handwritten signature]

9

Karrak

S#: 2

P Sec:001 Month:November 2014
KK7055 -Head Master GHS Dabli Lawa
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:

Name: ANAM REHMAN

NTN:

LAB ATTENDENT

GPF #:

CNIC No.1420258727531

Old #:

GPF Interest Applied

01 Active Permanent

KK7055 -

PAYS AND ALLOWANCES:

5002-Adjustment House Rent	834.00
5012-Adjustment Medical All	1,123.00
5309-Adj. 15% Adhoc Allowance	674.00
5898-Adj. Adhoc Allowance 50%	1,389.00
5911-Adj. Adhoc Relief 2011	416.00
5938-Adj. Adhoc Relief All 2012	898.00
5950-Adj:Adhoc Relief All-2014	119.00
5801-Adj Basic Pay	4,490.00

Gross Pay and Allowances

22,709.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance 212.00

Subrc:

Total Deductions

443.00

22,266.00

D.O.B

LFP Quota:

10.04.1979

HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.

00 Years 10 Months 029 Days

7900141601

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:June 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:

Name: ANAM REHMAN

NTN:

LAB ATTENDENT

GPF #:

CNIC No.1420258727531

Old #:

GPF Interest Applied

01 Active Permanent

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	4,800.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,200.00
1971-Adhoc Allowance 2011@ 15%	445.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2118-Adhoc Relief Allow (2012)	960.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	720.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	480.00
5002-Adjustment House Rent	5,346.00
Gross Pay and Allowances	87,259.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	1,696.00	Subrc:	212.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00
6001-Adj Benevolent Fund			348.00
6006-Adj Group Insurance			600.00
6075-Adj GPF			1,272.00
Total Deductions			2,931.00
			84,328.00

D.O.B 10.04.1979

LFP Quota: 4
HABIB BANK LIMITED
7900141601

Mitha Khel, Karak.

01 Years 05 Months 029 Days



Karrak

S#: 2

P Sec:001 Month:June 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:
Name: ANAM REHMAN
LAB ATTENDENT
CNIC No.1420258727531
GPF Interest Applied
01 Active Permanent

NTN:
GPF #:
Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

5011-Adj Conveyance Allowance	10,710.00
5012-Adjustment Medical All	7,200.00
5309-Adj. 15% Adhoc Allowance	4,320.00
5898-Adj. Adhoc Allowance 50%	2,670.00
5911-Adj. Adhoc Relief 2011	8,910.00
5938-Adj. Adhoc Relief All 2012	5,442.00
5950-Adj: Adhoc Relief All-2014	2,880.00
5801-Adj Basic Pay	28,800.00

Gross Pay and Allowances 87,259.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	1,696.00	Subrc:	
6145-Adj Addl Group Insurance			18.00
6164-Adj E.E.F NWFP Fund			250.00

Total Deductions 2,931.00

84,328.00

D.O.B
10.04.1979

LFP Quota:
HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.
7900141601

01 Years 05 Months 029 Days

12

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:July 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:

Name: ANAM REHMAN

LAB ATTENDENT

CNIC No.1420258727531

GPF Interest Applied

01 Active Permanent

NTN:

GPF #:

Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,210.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	621.00

Gross Pay and Allowances

11,944.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	1,939.00	Subrc:	212.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions

443.00

11,501.00

D.O.B

LFP Quota: 4

10.04.1979

HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.

01 Years 06 Months 030 Days

7900141601

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:August 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:
Name: ANAM REHMAN
LAB ATTENDENT
CNIC No.1420258727531
GPF Interest Applied
01 Active Permanent

NTN:
GPF #:
Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,210.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	621.00

Gross Pay and Allowances

11,944.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	2,151.00	Subrc:	212.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions

443.00

11,501.00

D.O.B
10.04.1979
01 Years 07 Months 030 Days

LFP Quota: 4
HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.
7900141601

14

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:September 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:
Name: ANAM REHMAN
LAB ATTENDENT
CNIC No.1420258727531
GPF Interest Applied
01 Active Permanent

NTN:
GPF #:
Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,210.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	621.00

Gross Pay and Allowances

11,944.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	2,363.00	Subrc:	212.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions

443.00

11,501.00

D.O.B
10.04.1979
01 Years 08 Months 029 Days

LFP Quota: 4
HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.
7900141601

15

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:October 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:

Name: ANAM REHMAN

LAB ATTENDENT

CNIC No.1420258727531

GPF Interest Applied

01 Active Permanent

NTN:

GPF #:

Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,210.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	621.00

Gross Pay and Allowances

11,944.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	2,575.00	Subrc:	212.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions

443.00

11,501.00

D.O.B

LFP Quota: 4

10.04.1979

HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.

01 Years 09 Months 030 Days

7900141601

16

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:November 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:

Name: ANAM REHMAN

LAB ATTENDENT

CNIC No.1420258727531

GPF Interest Applied

01 Active Permanent

NTN:

GPF #:

Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,210.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	621.00

Gross Pay and Allowances

11,944.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	2,849.00	Subrc:	274.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions

505.00

11,439.00

D.O.B

10.04.1979

LFP Quota: 4

HABIB BANK LIMITED
7900141601

Mitha Khel, Karak.

01 Years 10 Months 029 Days

17

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:December 2015
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:

Name: ANAM REHMAN

NTN:

LAB ATTENDENT

GPF #:

CNIC No.1420258727531

Old #:

GPF Interest Applied

01 Active Permanent

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,405.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	640.00

Gross Pay and Allowances

12,158.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance	3,123.00	Subrc:	274.00
3501-Benevolent Fund			120.00
3511-Addl Group Insurance			3.00
3604-Group Insurance			58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK			50.00

Total Deductions

505.00

11,653.00

D.O.B

LFP Quota: 4

10.04.1979

HABIB BANK LIMITED Mitha Khel, Karak.

01 Years 11 Months 030 Days

7900141601

18

Karrak

S#: 1

P Sec:001 Month:January 2016
KK7069 -Head Master GHS Khurram Ka
Education Schools

Pers #: 00725773 Buckle:
Name: ANAM REHMAN
LAB ATTENDENT
CNIC No.1420258727531
GPF Interest Applied
01 Active Permanent

NTN:
GPF #:
Old #:

KK7069 -

PAYS AND ALLOWANCES:

0001-Basic Pay	6,405.00
1000-House Rent Allowance	891.00
1300-Medical Allowance	1,500.00
1973-Adhoc Allowance 2010@ 50%	1,485.00
2148-15% Adhoc Relief All-2013	742.00
2174-Adhoc Relief Allow-2014	495.00
2199-Adhoc Relief Allow @10%	640.00

Gross Pay and Allowances 12,158.00

DEDUCTIONS:

GPF Balance 3,397.00	Subrc:	274.00
3501-Benevolent Fund		120.00
3511-Addl Group Insurance		3.00
3604-Group Insurance		58.00
3990-Emp.Edu. Fund KPK		50.00

Total Deductions 505.00

11,653.00

D.O.B	LFP Quota:	4
10.04.1979	HABIB BANK LIMITED	Mitha Khel, Karak.
02 Years 00 Months 030 Days	7900141601	

- 1- Name (م) Inam-Ul-Rehman (19)
- 2- Nationality and Religion Pakistani, Islam
(قومیت اور مذہب)
- 3- Residence Village P/O Mithra Khel T&D Karak
(مستقل رہائش)
- 4- Father's name and residence Samim Gul & As above
(والد کا نام اور پتہ)
- 5- Date of birth by christian era as 10/04/1979 (10th April)
nearly as can be ascertained Nineteen hundred and
(تاریخ پیدائش مطابق سن عیسوی) Seventy nine
- 6- Exact height by measurement 5'5"
(قد و قامت)
- 7- Personal mark of identification Mole Mark on Neck
(نشان شناخت)

8. Left hand/right hand thumb and finger-impressions of (Non-gazetted officer)

(مرد کی صورت میں بائیں اور عورت کی صورت میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات)

Little Finger
(چھنگلیا)

Ring Finger
(چھنگلیا کے ساتھ کی انگلی)


Middle Finger
(انگشت میاں)

Fore Finger
(انگشت شہادت)

Thumb
(انگوٹھا)

9. Signature of Govt. Servent

(سرکاری ملازم کے دستخط)





10. Signature and designation of the Head of the Office or other Attesting officer

(تصدیق کنندہ/سر کے دستخط اور مہر)



Note: The entries in this page should be renewed or re-attested at least every five years and the signatures in lines 9 and 10 should be dated. Finger prints need no be taken after every 5 years under this rule.

اس صفحہ کے مندرجہ کم از کم پانچ سال بعد تصدیق ہونا ضروری ہیں اور نمبر 9 اور 10 میں دستخطوں کے نیچے تاریخ لکھنی چاہیے۔

انگلیوں کے نشانات کے لئے ہر پانچ سال کے بعد تصدیق کی ضرورت نہیں

1	2	3	4		5		6	7	8
Name of Post	Whether Substantive or officiating and whether permanent or temporary	If officiating state- (i) substantive appointment or (ii) whether service counts for pension under rule 3-20 of C.S.R. (Pb.) Volume II اگر عارضی ہے تو رول کے مطابق پینشن کا مستحق ہے؟	Pay in substantive position		Additional pay for officiating		Other emoluments falling under the term pay ماسوائے تنخواہ دیگر الاؤنس	Date of appointment	Signature of Government servant
درجہ ملازمت	عارضی مستقل یا یا قائم مقام		متنخواہ بطور عارضی ملازمت		زائد متنخواہ بطور قائم مقام			تاریخ تقرری	دستخط سرکاری ملازم
			Rs.	Ps.	Rs.	Ps.			
Lab: Attendant Temp.			(Rs	4800-150-	9300)			3/10/2014 (F.N)	✓
GHS Dabli	Regular								
Lawalghar									

(Signature)

9 Signature and designation of the Head of the office or other attesting officer in attestation of column 1 to 8 دستخط افسر مجاز	10 Date of termination or appointment تاریخ انقطاع ملازمت	11 Reason of termination (such as promotion, transfer, dismissal) وجوہات انقطاع ملازمت ترقی تبادلہ یا برطرفی	12 Signature of the head of the office or other Attesting officer دستخط افسر مجاز	13 Nature and duration of leave taken رخصت کی نوعیت ومعیاد	13 Allocation of period of leave of average pay up to four months (or earned leave net exceeding 120 days) to which leave salary is debit to another Government چار ماہ تک کی رخصت کے لئے اوسط تنخواہ کا تعین Government to which debit گورنمنٹ جسے رقم ادا ہوگی Period عرصہ	14 Signature of the Head of the office or other attesting Officer دستخط افسر مجاز	15 Reference to any recorded punishment or censure, reward or praised of the Government servants سزایا جزایا غیر مناسب کارکردگی کا ریکارڈ
<p>Handwritten signature</p>					<p>Appointed as Lab Attendant at GHS High Secondary School Dabli Lanaghar on the basis of 2% Disable Quota vide District Edu: officer (Male) Karak Sendst: No 3341-44 dated Karak the 3/10/2014 Man. Handwritten signature</p>		
					<p>Drawn Rs 63565/2 on 26/11/15 of 6/11/2015 ref 1/11/2015 5030/1/2015 Regularly pay 15/5/15</p>		
		<p>Handwritten signature</p>				<p>Handwritten signature</p>	

(Annature - D) 22



PAYROLL SYSTEM
AMENDMENT FORM
SINGLE EMPLOYEE ENTRY

FORM: PAY02

Date ¹

Page No. ²

T-278
9-2-16

OFFICE OF THE ³

Headmaster GHS Khurram Karak

FOR THE MONTH OF

December 2015

DDO Code ⁵
(Cost Center)

KK7069

Description ⁵

GHS Khurram

Personnel
Number ⁷

00725773

Employee
Name ⁶

Anam Rehman

National ID ⁹
Card Number

1429-5872753-1

Grade (Pay
Scale Group) ¹⁰

02

Salary ¹²
Status

Start

Stop

Info ¹⁴ Type	Field ID ¹⁵	GENERAL DATA CHANGE ¹³			CHANGE IN PAYMENTS / DEDUCTIONS ¹⁷			Effective Date ²¹	Remarks ²²
		New Contents ¹⁶	Wage Type ¹⁸	Amount					
				Rupees ¹⁹	Paisa	Adj ²⁰			
		Stoppage of pay						Pay may be stopped wef 01-02-2016 as the official command is absent for duty.	

[Signature]

Head Master
G.H.S Khurram
Karak

[Signature]

Prepared By ¹¹

Added/Checked By ¹⁴

Entered / Verified By ²³

کبریت صائب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ ضلع کراچی

Annexure-E اپیل برائے اخصاف / برائے دستاویزی کاپی کے حوالے سے

ضابطہ

گذشتہ 2۔ 3 مئی 2016ء کو سائل الشام احمد خان ایک زیر سامہ کچھ اے آر ڈی نمبر 3341-44-3341
 تاریخ 3-10-2016 پر سبھا ریزی اسٹیشن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر گورنمنٹ کالج سیکنڈری سکول فیصلی بوائز
 میں خرابیوں سے متعلقہ سائل رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ اور باقاعدہ تنخواسیں دیا گیا تھا۔
 سائل کو باقاعدہ تنخواہ ملنا تھا۔ مگر اخصاف کے طرف سے صیغہ ماسٹر گورنمنٹ کالجی سکول
 رقم سے باقاعدہ 9.2.2016 پر تنخواسیں بند کر دی گئی۔ کیونکہ صیغہ ماسٹر پر کوئی اور کی
 تیسری سوچا ہے۔ اور باقاعدہ جانچ دیا گیا۔ سائل اس دن سے کئے گئے فعال درجہ
 کی کٹوتی سے کٹا ہے۔ نہ تو تنخواسیں ملتے ہیں۔ اور نہ کسی سکول کا تہہ ہے۔ سائل کو بار بار
 دفتر آتا رہتا ہے جا اور ہے سو دروازیں جانا پڑتا ہے۔

اپنی مندرجہ ذیل ہے۔ کہ سائل کو آئیے اور کچھل بوسٹ پر پیادہ دروازے کے
 غیر صاف سبب کو تنخواسیں یا لفسر تنخواہ کے احکامات صادر فرمادیں۔ تاکہ سائل
 مزید ڈیوٹی سرانجام دے سکیں۔ ورنہ سائل ~~بے~~ بااثر جمہوری کردار کا
 دروازہ پرانے اٹھانے کھٹکنا رہے گا۔ کیونکہ مجھے نہ تو کچھ ملتا ہے۔ اور
 نہ دفتر سے بلکاروں نے مجھے بروقت اطلاع دی ہے۔ اور نہ مجھے ابھی تک
 کوئی آر ڈی برائے کارروائی موصول ہو چکی ہے۔ لہذا استدعا ہے۔

شام احمد خان
 25/03/2016

شام احمد خان

عنوان۔ اپیل برائے انصاف برائے بحالی سروس (لیب آئیڈنٹ پوسٹ گورنمنٹ ہائی سکول خرم)


جناب عالی۔ سائل انعام الرحمن مودبانہ عرض کرتا ہے۔

گزارش ہے کہ میں سائل انعام الرحمن کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) ضلع کرک نے بحوالہ تقرری آرڈر نمبر 44-3341 مورخہ 13 اکتوبر 2014 کو بحیثیت لیبارٹری آئیڈنٹ پوسٹ پر بھر گورنمنٹ ہائی سکول دہلی لواغر میں بھرتی کیا اور سائل GHSS Dabli Lawaghar میں ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا اور ماہ اکتوبر اور ماہ نومبر سال 2014 کی تنخواہیں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول دہلی لواغر نے سائل کو آدا کیا اور اس کے بعد سائل کو زبانی احکامات کے تحت گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی سرانجام دینے کا حکم کیا گیا تو سائل نے گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی دینا شروع کیا اور ماہ دسمبر سال 2014 سے لیکر ماہ جون سال 2015 تک تنخواہیں یکمشت ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول خرم ہیڈ نمبر KK7069 سے آدائیگی کی گئی اور پھر جولائی سال 2015 سے لیکر ماہ جنوری سال 2016 تک سائل تنخواہیں سکول متذکرہ میں آدائیگی کی گئی۔ ماہ فروری سال 2016 سے تنخواہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بذریعہ Source-II Form کے تحت بند کردی گئی اور ساتھ ساتھ سائل کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے زبانی حکم کیا کہ آئندہ سکول مت آئے۔ بعد میں سائل کو معلوم ہوا کہ سائل کی پوسٹ شفیق الرحمن نامی کلاس فور گورنمنٹ ہائی سکول خرم سیاسی بنیادوں ٹرانسفر کیا گیا۔

جناب والا۔ سائل نے آپ صاحب کو مورخہ 27-05-2016 اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو مورخہ 25-03-2016 کو درخواستیں برائے بحالی سروس اور آدائیگی تنخواہیں ارسال کی ہیں مگر بے سود۔

جناب والا۔ سائل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کن وجوہات کی بناء پر سائل کو گورنمنٹ ہائی سکول میں ڈیوٹی سے منع کیا اور ساتھ ساتھ سائل کی تنخواہ کیوں بند کردی گئی۔

لہذا آپ صاحب سے مودبانہ التجا کی جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) کرک کو حکم صادر فرمایا جائے کہ وہ سائل کو اپنے پوسٹ لیبارٹری Attendant پر گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں سروس پر بحالی اور سابقہ تنخواہیں بھی کھولنے کے احکامات صادر فرمایا جائے۔ سائل دعا گو رہے گا۔



03-06-2017

المنبند
سائل
انعام الرحمن ولد سمین گل گاؤں وڈا کخانہ میٹھا خیل
تحصیل و ضلع کرک۔

بخدمت جناب ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبر پختون خواہ پشاور

عنوان۔ اپیل برائے انصاف برائے بحالی سروس (لیب آئیڈنٹ پوسٹ گورنمنٹ ہائی سکول خرم)


جناب عالی۔ سائل انعام الرحمن مودبانہ عرض کرتا ہے۔

گزارش ہے کہ میں سائل انعام الرحمن کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) ضلع کرک نے بحوالہ تقرری آرڈر نمبر 44-3341 مورخہ 13 اکتوبر 2014 کو نحسیت لیبارٹری آئیڈنٹ پوسٹ پر بھر گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول دہلی لواغر میں بھرتی کیا اور سائل GHSS Dabli Lawaghar میں ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا اور ماہ اکتوبر اور ماہ نومبر سال 2014 کی تنخواہیں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول دہلی لواغر نے سائل کو آدا کیا اور اس کے بعد سائل کو زبانی احکامات کے تحت گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی سرانجام دینے کا حکم کیا گیا تو سائل نے گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی دینا شروع کیا اور ماہ دسمبر سال 2014 سے لیکر ماہ جون سال 2015 تک تنخواہیں یکمشت ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول خرم ہیڈ نمبر KK7069 سے آدا نیگی کی گئی اور پھر جولائی سال 2015 سے لیکر ماہ جنوری سال 2016 تک سائل تنخواہیں سکول متذکرہ میں آدا نیگی کی گئی۔ ماہ فروری سال 2016 سے تنخواہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بذریعہ Source-II Form کے تحت بند کردی گئی اور ساتھ ساتھ سائل کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے زبانی حکم کیا کہ آئندہ سکول مت آئے۔ بعد میں سائل کو معلوم ہوا کہ سائل کی پوسٹ شفیع الرحمن نامی کلاس فور گورنمنٹ ہائی سکول خرم سیاسی بنیادوں ٹرانسفر کیا گیا۔

جناب والا۔ سائل نے آپ صاحب کو کوئی درخواستیں برائے بحالی سروس اور آدا نیگی تنخواہیں ارسال کی ہیں مگر بے سود۔ (نقولات لف ہیں)۔

جناب والا۔ سائل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کن وجوہات کی بناء پر سائل کو گورنمنٹ ہائی سکول میں ڈیوٹی سے منع کیا اور ساتھ ساتھ سائل کی تنخواہ کیوں بند کردی گئی۔ سائل چونکہ بے وزگار ہوا ہے اور سخت ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوا ہے۔

لہذا آپ صاحب سے مودبانہ التجا کی جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) کرک کو حکم صادر فرمایا جاوے کہ وہ سائل کو اپنے پوسٹ لیبارٹری Attendant پر گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں سروس پر بحالی اور سابقہ تنخواہیں بھی کھولنے کے احکامات صادر فرمایا جائے۔ سائل دعا گو رہے گا۔



العبد
سائل
انعام الرحمن ولد سمین گل گاؤں وڈا کھانہ لیٹھا خیل
تخصیص و ضلع کرک۔
2016-12-13

بخدمت جناب ڈائریکٹر ایلیمینٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبر پختون خواہ اپشاور

عنوان۔ اپیل برائے انصاف برائے بحالی سروس (لیب آئیڈنٹ پوسٹ گورنمنٹ ہائی سکول خرم)

جناب عالی۔ سائل انعام الرحمن مودبانہ عرض کرتا ہے۔

گزارش ہے کہ میں سائل انعام الرحمن کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) ضلع کرک نے بحوالہ تقرری آرڈر نمبر 44-3341 مورخہ 13 اکتوبر 2014 کو بحیثیت لیبارٹری آئیڈنٹ پوسٹ پر بھر گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول دہلی لواغر میں بھرتی کیا اور سائل GHSS Dabli Lawaghar میں ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا اور ماہ اکتوبر اور ماہ نومبر سال 2014 کی تنخواہیں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول دہلی لواغر نے سائل کو آدا کیا اور اس کے بعد سائل کو زبانی احکامات کے تحت گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی سرانجام دینے کا حکم کیا گیا تو سائل نے گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی دینا شروع کیا اور ماہ دسمبر سال 2014 سے لیکر ماہ جون سال 2015 تک تنخواہیں یکمشت ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول خرم ہیڈ نمبر KK7069 سے آدائیگی کی گئی اور پھر جولائی سال 2015 سے لیکر ماہ جنوری سال 2016 تک سائل تنخواہیں سکول متذکرہ میں آدائیگی کی گئی۔ ماہ فروری سال 2016 سے تنخواہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بذریعہ Source-II Form کے تحت بند کردی گئی اور ساتھ ساتھ سائل کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے زبانی حکم کیا کہ آئندہ سکول مت آئے۔ بعد میں سائل کو معلوم ہوا کہ سائل کی پوسٹ شفیق الرحمن نامی کلاس فور کو گورنمنٹ ہائی سکول خرم سیاسی بنیادوں ٹرانسفر کیا گیا۔

جناب والا۔ سائل نے آپ صاحب کو مورخہ 27-05-2016 اور 13 دسمبر 2016 اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو مورخہ 25-03-2016 کو درخواستیں برائے بحالی سروس اور آدائیگی تنخواہیں ارسال کی ہیں مگر بے سود۔

جناب والا۔ سائل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کن وجوہات کی بناء پر سائل کو گورنمنٹ ہائی سکول میں ڈیوٹی سے منع کیا اور ساتھ ساتھ سائل کی تنخواہ کیوں بند کردی گئی۔

لہذا آپ صاحب سے مودبانہ التجا کی جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) کرک کو حکم صادر فرمایا جاوے کہ وہ سائل کو اپنے پوسٹ لیبارٹری Attendant پر گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں سروس پر بحالی اور سابقہ تنخواہیں بھی کھولنے کے احکامات صادر فرمایا جائے۔ سائل دعا گو رہے گا۔

العبد
سائل
انعام الرحمن ولد سمین گل گاؤں وڈا کخانہ بیٹھانہ خیل
تخصیص و ضلع کرک۔
02-09-2018

بخدمت جناب ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سکینڈری ایجوکیشن خیبر پختون خواہ

عنوان:- اپیل برائے انصاف برائے بحالی سروس (لیب آئیڈنٹ پوسٹ)

جناب عالی

گزارش ہے۔ کہ میں سائل انعام الرحمن آپ کے زیر سایہ کو آرڈر نمبر 3341-44 بتاریخ 03-10-2014 سے لیبارٹری آئیڈنٹ پوسٹ پر گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول دہلی لاواغر میں فرائض نبھاتا تھا۔ سائل ریگولر ڈیوٹی کرتا تھا، اور باقاعدہ تنخواہیں لے رہا تھا۔ اور میری ٹرانسفر گورنمنٹ ہائی سکول حرم کردی گئی اور سات مہینے وہاں ڈیوٹی کی اور ساتھ میں تنخواہ وصول کی اور میں اچانک سیاسی لوگوں کی بھینٹ چڑھ گیا اور اس سکول میں میری جگہ پر دوسرے مقامی بندے کی ٹرانسفر کردی گئی، اور اسکو باقاعدہ چارج بھی دے دیا گیا، جنوری 2016 کی تنخواہ لینے کے بعد سکول کے ہیڈ ماسٹر نے میری تنخواہ 01-02-2016 سے بند کردی۔ میں نے فوراً دفتر سے رجوع کیا اور کئی بار درخواستیں بھی دی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی، سائل اس دن سے لے کر تاحال در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہیں، نہ تنخواہیں مل رہی اور نہ ہی کسی سکول کا پتہ ہے۔ سائل کا بار بار دفتر آنا ہوا مگر بے جا اور بے سود واپس جانا پڑا۔

جناب عالی اپیل ہذا سے دردمندانہ التجا ہے کہ سائل کو اپنے اور پینل پوسٹ پر دوبارہ بحال کر کے اور ساتھ میں تنخواہ کے احکامات صادر فرمائیں۔ جناب عالی سائل کی تنخواہ بند ہونے کی وجہ سے سائل لوگوں کا قرض دار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مہربانی فرمائیں تاکہ سائل مزید اپنی ڈیوٹی سرانجام دے سکیں اور اپنے بچوں کا چولہا چلا سکے۔ آپ ہماری امید کی آخری کرن ہیں، مجبوراً سائل کو آخر عدالت اپنی فریاد لے کر جانا ہوگا۔ مجھے آج تک دفتر سے کوئی آرڈر یا نوٹس تحریری یا زبانی بھی موصول نہیں ہوا۔ لہذا استدعا ہے کہ سائل کے حالات پر رحم و کرم فرما کر سائل کو اپنا روزگار عین انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ادا کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امین

سائل انعام الرحمن ولد سمین گل
گاؤں وڈا کخانہ بیٹھا خیل
تحصیل و ضلع کرک
27-05-2016

شکریہ



258

بخدمت جناب سیکرٹری صاحب Secretary E & SED گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ پشاور


عنوان۔ درخواست بمراد بحالی سروس بحیثیت لیب آئیڈنٹ گورنمنٹ ہائی سکول خرم بمعہ ریلیز فرمانے سابقہ تنخواہیں


جناب عالی۔ سائل انعام الرحمن مودبانہ عرض کرتا ہے۔

گزارش ہے کہ میں سائل انعام الرحمن کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) ضلع کرک نے بحوالہ تقرری آرڈر نمبر 44-3341 مورخہ 13 اکتوبر 2014 کو بحیثیت لیبارٹری آئیڈنٹ پوسٹ پر بھر گورنمنٹ ہائیڈرو سکول دہلی لواعر میں بھرتی کیا اور سائل GHSS Dabli Lawaghar میں ڈیوٹی سہرا انجام دیتا رہا اور ماہ اکتوبر اور ماہ نومبر سال 2014 کی تنخواہیں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائیڈرو سکول دہلی لواعر نے سائل کو آدیا اور اس کے بعد سائل کو زبانی احکامات کے تحت گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی سرانجام دینے کا حکم کیا گیا تو سائل نے گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں ڈیوٹی دینا شروع کیا اور ماہ دسمبر سال 2014 سے لیکر ماہ جون سال 2015 تک تنخواہیں یکمشت ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول خرم ہیڈ نمبر KK7069 سے آدائیگی کی گئی اور پھر جولائی سال 2015 سے لیکر ماہ جنوری سال 2016 تک سائل تنخواہیں سکول متذکرہ میں آدائیگی کی گئی۔ ماہ فروری سال 2016 سے تنخواہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بذریعہ Source-II Form کے تحت بند کر دی گئی اور ساتھ ساتھ سائل کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے زبانی حکم کیا کہ آئندہ سکول مت آئے۔ بعد میں سائل کو معلوم ہوا کہ سائل کی پوسٹ شفیع الرحمن نامی کلاس فور کو گورنمنٹ ہائی سکول خرم سیاسی بنیادوں ٹرانسفر کیا گیا۔

جناب والا۔ سائل نے ڈائریکٹر ایجوکیشن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن (مردانہ) کو کئی درخواستیں ارسال کی تھی مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جناب والا۔ سائل بے روزگاری کی وجہ سے گونا گویا مسائل میں پھنس گئے ہیں۔

لہذا آپ صاحب سے مودبانہ التجا کی جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) کرک کو حکم صادر فرمایا جاوے کہ وہ سائل کو اپنے پوسٹ لیبارٹری Attendant پر گورنمنٹ ہائی سکول خرم میں سروس پر بحالی اور سابقہ تنخواہیں بھی کھولنے کے احکامات صادر فرمایا جائے۔ سائل دعا گو رہے گا۔



العبد
سائل
انعام الرحمن ولد سمین گل گاؤں وڈا خانہ میٹھانیل
تحصیل ضلع کرک۔ 2019-04-05


29

From Ahmad Farooq Khattak
Advocate, Karak.


NOTICE

To:-

1. District Education Officer (Male), Karak.
2. Director Education Elementary & Secondary Education
Department Khyber Pakhtunkhawa, Peshawar.
3. Secretary Elementary & Secondary Education
Department Khyber Pakhtunkhawa, Peshawar.


Please take notice that I am today filing writ petition against appointment order No. 1560-62 dated 16-03-2018 on behalf of petitioner namely Inam ur Rehman the titled "Inam ur Rehman V.S Provincial Govt: of KP writ petition in the Peshawar High Court Bannu Bench, Bannu.

Dated -----/10/2019


Ahmad Farooq Khattak
Advocate, Karak

047796

31



PAKISTAN COURT FEE

Filed Today
14 NOV 2019
Additional Registrar

In the event of joining or carrying on any other profession, service or business, the holder will not be entitled to use this card and shall forthwith surrender it to the KP Bar Council

Father's Name: KHAN MALOOK
Address: DIST: COURTS KARAK

Contact No: 03327778899
Enrolment Date L.C: 15-July-1986
Enrolment Date H.C: 12-September-1991
Place of Practice: KARAK
Date of Birth: 06-June-1961
Blood Group: O+VE
C.NIC No: 14202-1347465-5

Card No
12129

KHYBER PAKHTUNKHWA BAR COUNCIL
Bar Council Building, Khyber Road, Peshawar, ph 091-9211172, 9212415, Fax 091-9213914
E-mail support@kpbarcouncil.com, www.kpbarcouncil.com



KHYBER PAKHTUNKHWA
BAR COUNCIL

AHMAD FAROOQ HATTAK

Advocate
bc-09-0019
Date of issue: February 2018
Valid upto: February 2021



Acting Secretary
KP Bar Council

ADVOCATE HIGH COURT

قیمتی

وکالت نامہ

قیمتی

بعدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ بنوں بیچ بنوں

صوبائی حکومت

الفام الرحمن

منجانب: نیشنل رٹ پیشین افوجداری اپیل / سول اپیل / متفرق CM

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا ہم اپنی طرف سے واسطے پیروی و جوابدہی اور دیگر کل کاروائی کیلئے برائے

مقام: بنوں بیچ احمد فاروق خشک ایڈووکیٹ

کو وکیل مقرر کر کے اختیار دیتے ہیں کہ میری / ہماری جناب سے مقدمہ مذکورہ کی پیروی و جوابدہی کرے۔ راضی نامہ کرے، فیصلہ ثالثی کرائے کہ فیصلہ کرانے پر حلف منظور کرے ہر قسم کا بیان دیوے، ہر قسم کے سوال و جواب کرے، عرضی دعویٰ کرے جواب دعویٰ، اپیل جواب الجواب، عذرات، نگرانی، نظر ثانی، درخواست ہائے متفرق اور دیگر ہر قسم کے دستاویزات تحریر و تصدیق کر کے داخل کرے، واپس لیوے، دست برداری کرے، ترمیم کرے، ہر قسم رقوم مقدمہ، جرمانہ، ہرجانہ داخل اور وصول کرے، ہر قسم دستاویز جو بعد پیروی ڈسٹس ہو سربرز کرے۔ کاروائی، ڈگری یکطرفہ منسوخ کرے۔ اجراء ڈگری کرے۔ زر ڈگری وصول کرے۔ قبضہ جائیداد لیوے دیوے۔ اپنے ہمراہ ایڈووکیٹ بیرسٹر یا مختار قانون برائے جزوی یا کل کاروائی مقرر کرے علیحدہ کرے۔ دوران مقدمہ اگر جرمانہ، ہرجانہ فریق مخالف سے وصول ہو، وہ حق وکیل صاحب کا ہوگا۔ اگر پیشی ایسے مقام پر ہو جو صدر مقام سے دور ہو تو وکیل صاحب پیروی کے ذمہ دار نہ ہونگے۔ اس سلسلے میں جملہ ساختہ و برواختہ وکیل صاحب موصوف منظور و قبول ہوگا۔ لہذا وکالت نامہ ہذا لکھ دیا کہ سدر ہے۔ نیز وکیل موصوف کو میری جانب سے مقدمہ فوجداری و مال میں بھی مکمل کاروائی کرنے کا مکمل اختیار با مضمون بالا حاصل ہوگا۔

Attested: ~~~~~

مورخہ: ماہ: سال:

0345-2222282

مضمون وکالت نامہ سن لیا اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

Ahmad.farooq@yahoo.com

کلرک صدقت رشید 0336-9734860



العبد العبد

العبد العبد

14202-5872753

PESHAWAR HIGH COURT,
BANNU BENCH.

FORM 'A'
FORM OF ORDER SHEET

Date of order or proceedings	Order or other proceedings with signature of Judge (s).
(1)	(2)
20.11.2019	<p><u>W.P No.1124-B of 2019.</u></p> <p>Present:</p> <p style="text-align: center;">Mr. Ahmad Farooq Khattak Advocate for petitioner.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p style="text-align: center;">Respondent No.3 shall file his para-wise comments to reach this Court within fortnight.</p> <p style="text-align: center;"> <u>JUDGE</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>JUDGE</u></p>

Office
21/11/19